

999/CORP

November 03, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
KARACHI.

Sub: Notice of Book Closure for the Entitlement of Interim Cash Dividend for Shareholders


Dear Sir,


This is in compliance of section 125 of the Companies Act, 2017 and PSX Regulation No. 5.5.11 concerning the captioned subject.

In this connection, please find enclosed copies of the Notice of Book Closure published nationwide in two newspapers namely "**The Nation**" and "**The NAWA-I-WAQT**" in English and Urdu languages respectively for information of shareholders of the Book Closure regarding their entitlement of Interim Cash Dividend of Rs.180 per share i.e. 1800%.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,
for Bata Pakistan Limited


(Amjad Farooq)
Chief Financial Officer



ہائپا پاکستان لیٹرز

نوائس برائے عبوری نقد منافع منقسمہ برائے سال ختمہ 31 دسمبر 2022ء اور حصص منتقلی کتب کی بندش کی اطلاع

ہائپا پاکستان لیٹرز (پکٹی) کے صدر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پکٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 26 اکتوبر 2022ء کو منقسمہ ہائپا کے اجلاس میں 1800% (180 روپے فی حصہ) عبوری منافع کی منظوری دی ہے۔ پکٹی کی عبوری منافعیں 7 نومبر 2022ء سے 9 نومبر 2022ء تک بند رہیں گی (دو دن ایام شامل ہیں) تاکہ عبوری کش ڈیوڈ کے حق داروں کا حقین کیا جاسکے۔ 4 نومبر 2022ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پر پکٹی کے صدر رجسٹرار ایم ایس کارہانک پرائیویٹ لیٹرز کو رجسٹر آف کمپنیز 1-K کرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہونے والی پکٹی کی درخواستوں کو بروقت تصدیق کیا جائیگا۔

محکم ہورڈ

امہ فاروق

چیف خالص آفیسر

تاریخ: 26 اکتوبر 2022ء

بمقام لاہور

کیپیڈن ڈیوٹی شافٹی کارڈ کی کاپیاں جمع کرنا:

سکریٹری اینڈ ایگزیکٹو مین آف پاکستان کے 18 اگست 2011ء کے ایس آر 779 (1) اور تمام دیگر قابل اطلاق قوانین کے تحت تمام پکٹی ممبران اور صدر ہولڈرز کو جنہوں نے اپنے کیپیڈن ڈیوٹی شافٹی کارڈ کی کاپیاں جمع نہیں کروائیں، مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ کاپیاں صدر رجسٹرار کے دفتر (پکٹی ایم ایس کارہانک پرائیویٹ لیٹرز، ماڈل ٹاؤن لاہور) میں جمع ہونے چاہئیں۔ ایسا نہ کرنے اور نہ گورہ والا ایس ای سی پی قوانین کی عدم تعمیل پر ممکنہ طور پر مستقبل میں قانونی تھمے کے تحت ڈیوڈ پر پکٹی کو روکا جاسکتا ہے۔

ڈیوڈ پر پکٹی میٹنگ فارم۔

کیپیڈن ایکٹ 2017ء کے سیکشن 24 کے تحت تمام ممبران ان کے منافع کی ادائیگی ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں کی جاسکتی ہے۔ اگر وہ ہائپا کیپیڈن ڈیوٹی شافٹی کارڈ، اکاؤنٹ نمبر بنی تصدیق شدہ ڈیجیٹل جس میں پکٹی کا نام، پکٹی برانچ کوڈ اور آئی ٹین نمبر شامل ہیں فراہم کریں۔ لہذا ایسے تمام ممبران کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ جن کی مکمل دستاویزات موصول نہیں ہوئی ہیں کہ وہ منافع کی ان ادائیگیوں کیلئے صدر رجسٹرار کے دفتر یا پکٹی میں اپنے کیپیڈن ڈیوٹی شافٹی کارڈ کی کاپی اور ڈیوڈ پر پکٹی میٹنگ فارم جمع کر کے جمع کروائیں۔ یہ فارم پکٹی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر دستیاب ہے۔ یاد رہے اگر ان قوانین پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو کیپیڈن ایکٹ اور ایس ای سی پی کے اصولوں کے منظر ایسے ممبران کے منافع پکٹی روک لینے کی جاز ہوگی۔ وہ ممبران جن کے صدر ڈیوٹی ایس اکاؤنٹ میں موجود ہیں ان کا آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیوڈ پر پکٹی میٹنگ فارم اپنے متعلقہ شراکت داروں یا شاخ بروکر کو بھی فراہم کریں۔

ڈیوڈ پر پکٹی کی کوئی۔

اکمپلس آرڈیننس 2001ء کے مطابق دو ہولڈنگ کمپنی کی کوئی کے حوالے سے متعلقہ منافع پر عائد ہوتے ہیں۔ قائلہ دہشت منافع پر عائد ہوتے ہیں۔ جس کا نام ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ ایکٹوٹیکس میجر زسٹ میں آرہا ہو۔ اور تان فاکر یا غیر فاکر دو ہولڈر ہے جس میں کسی سسٹم میں شامل کیا جاتا ہو۔ پکٹی کتب بند ہونے کے پہلے دن ممبران کے کمپس کی حیثیت کا پتہ لگنے کی۔ ڈیوڈ پر بندش اور دو ہولڈنگ کمپنی کی موجودہ شرح اور اراکین کی ALT حیثیت کے مطابق لاگو ہوگی۔

شراکت دار صدر ہولڈر کیلئے کمپس کی کوئی کا طریقہ کار۔

ایسے صدر مالکان جو فیڈرل ہورڈ آف ریونیو کی وضاحت کے تحت جو اسٹاک صدر ہولڈرز ہیں ان پر دو ہولڈنگ کمپس فیکس فاکر اور غیر فاکر کی مد میں ان کی شراکت دار صدر ہولڈنگ میں تناسب کی حیثیت سے الگ الگ عائد کیا جائیگا۔ لہذا وہ صدر مالکان جو جو اسٹاک صدر ہولڈر کی حیثیت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ پرنٹل صدر ہولڈر کا تناسب صدر رجسٹرار کی قاریت میں پیش یا درج کرے۔ اور میجر زسٹ ایم ایس کارہانک پرائیویٹ لیٹرز جو رجسٹر آف کمپنیز 1-K کرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو ارسال کریں۔

دو ہولڈنگ کمپس سے استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ

2001ء کے کمپس قانون کے سیکشن 150 کے مطابق، دو ہولڈنگ کمپس کی کوئی سے استثنیٰ کیلئے کمپس اسٹاک کا ٹھکانہ بننا ضروری ہے۔ وہ ممبران جو کمپس آرڈیننس کے سیکشن IV کی 47B کے تحت کو ایف بی آر کرتے ہیں اور کمپس سے استثنیٰ چاہتے ہیں ان کی کتب بند ہونے سے قبل کمپس اسٹاک کے سرٹیفکیٹ کی کاپی صدر رجسٹرار کے دفتر میں فراہم کرنا لازمی ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کی کمپس لاگو کیا جائیگا جو قانون میں درج ہے۔

پتہ میں تبدیلی اور ڈک اؤٹ کی کوئی سے استثنیٰ کی اطلاع۔

وہ ممبران جو صدر سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں ان کے لیے صدر رجسٹرار کے دفتر میں ڈک اؤٹ کی کوئی اسٹاک اور کمپس کے پتے میں تبدیلی کا بروقت مطلع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ ممبران جو ڈیوٹی ایس میں صدر کے مالک ہیں یا پرائیویٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں ان کے لئے بھی ان دونوں صورتوں میں ڈیوٹی ایس یا پتہ شاخ بروکر کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔

فریکل صدر کاب اعزازی فارم میں شامل۔

2017ء کے سیکشن ایک کے سیکشن 72 کی 2) کے مطابق تمام موجودہ کمپنیز کو اپنے جاری کردہ صدر ڈکٹریٹنگ فارم سے تبدیل کر کے ایک اعزازی فارم میں الٹو کرنا ہوگا۔ اور اس کا دورانیہ اس ایکٹ کے لاگو ہونے سے 4 سال کے اندر عائد ہے۔ اس پر عمل درآمد نہ کیلئے ضروری ہے کہ تمام شراکت دار کو پورا کیا جائے۔ تاکہ ہولڈنگ صدر کاب ایک اعزازی فارم میں پھر پورا قاعدہ نافذ کیا جاسکے۔ وہ صدر ہولڈرز جو ابھی تک فریکل فارم میں صدر ہولڈر کے طور پر عائد ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اب ایک اعزازی فارم میں تبدیل کر لیں۔

غیر رجسٹرڈ منافع اور صدر سرٹیفکیٹس۔

صدر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پکٹی ایکٹ 2017ء کے سیکشن 24 اور غیر رجسٹرڈ منافع اور غیر تقسیم شدہ ایسیس ریکارڈز جنھوں نے 2017ء کے مطابق پکٹی کیلئے ایسے کمپس فیڈرل کو ڈسٹ کے کریڈٹ میں اور صدر کمپس میں جمع کرانے ہوئے جو ادائیگی کی ضرورت تاریخ سے 3 سال سے زائد عائد کیلئے غیر ادا شدہ ہے۔ اگر تقسیم شدہ ہے اس حوالے سے متعلقہ صدر ہولڈرز کو نوٹس پہلے ہی جاری کئے جاتے ہیں۔

BATA PAKISTAN LIMITED

DECLARATION OF INTERIM CASH DIVIDEND FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2022 AND CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The shareholders of Bata Pakistan Limited ("Company") are hereby notified that the Board of Directors of the Company, in their meeting held on October 26, 2022, has approved 1,800% (Rs.180/- per share) interim cash dividend.

The Share Transfer Books of the Company would remain closed from November 07, 2022 to November 09, 2022 (both days included) to work out the entitlements for the interim cash dividend. Transfer requests received to the Share Registrar of Company M/s Corplink (Pvt.) Limited situated at Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, at the close of business hours on November 04, 2022 shall be treated in time for purpose of payment of interim cash dividend to entitled shareholders.

By Order of the Board

Amjad Farooq
Chief Financial Officer
Place: Lahore
Date: October 26, 2022

Mandatory Submission of CNIC Copies:

With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(1)2011 dated August 18, 2011 and all other applicable regulations, the Shareholders who have not yet submitted photo copy of their valid CNIC to the Company are required to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above mentioned SRO, the Company may be constrained to withhold transfer of dividend in the future as required under the law.

Dividend Bank Mandate:

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017 ("Act") Shareholders are requested to provide their CNIC's and bank account detail including name of the bank, address/code of bank branch and International Bank Account Number (IBAN) to receive their cash dividend directly into their bank accounts. Therefore, Shareholders who have not yet provided their CNIC's and Bank Account details are once again reminded to immediately submit a copy of their CNIC and duly filled Dividend Bank Mandate Form to the Company's Share Registrar or to the Company. In the absence of valid bank account details and CNIC, dividend amount will be withheld in compliance with the relevant provisions of the Act and Regulations of SECP. The Dividend Bank Mandate Form is available at the Company's website i.e. www.bata.com.pk.

Shareholders who are holding shares in CDC accounts are advised to provide their Dividend Bank Mandate Form to their respective participants/stockbrokers.

Tax Implications on Dividends:

Pursuant to the provisions of the Income Tax Ordinance 2001, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. Therefore, the rate of withholding tax on dividend will be applicable as per law. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List ("ATL") issued by FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. FBR has uploaded ATL on its web-site which may be viewed at <http://fbr.gov.pk>. The Company will ascertain the tax status of Shareholders on the first day of book closure and withholding tax rate on dividend will be applicable as per current ATL status of the shareholders.

Tax in case of Joint Shareholders:

For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by FBR, withholding tax will be determined separately on 'filer' and 'non-filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who are holding shares jointly are required to provide shareholding proportions of Principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar in following format:

Company Name	Folio/CDC Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Messrs Corplink (Pvt) Ltd.

Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore Ph: 042-35916714, 35916719,
Fax: 042-35869037

Valid Tax Exemption Certificate for Exemption from Withholding Tax:

A valid Tax Exemption Certificate is necessary for seeking as exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax ordinance, 2001. Shareholders who qualify under Clause 47B of Part IV of the Second Schedule to the Income Tax ordinance, 2001 and wish to seek an exemption should provide a copy of their valid Tax Exemption Certificate to the Share Registrar prior to the date of book closure, failing which deduction of withholding tax shall take place as per law.

Intimation of Changes of Address and Declaration for Non-Deduction of Zakat:

Shareholders, who hold shares certificates are also required to provide their declaration for Non-Deduction of Zakat (if applicable) to the share registrar of the company and notify changes in their registered address. Shareholders who hold shares in CDC / participant accounts should update their address and submit their declarations for Non-Deduction of Zakat, if applicable, to CDC or their respective participants /stockbrokers.

Replacement of Physical Shares into Book Entry Form:

Refer to the provisions of Section 72(2) of the Companies Act, 2017, which requires all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-entry-form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Act. To ensure full compliance with the provisions of the aforesaid section and to be benefitted from the facility of holding shares in the Book-entry-form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares into Book-entry-form.

Unclaimed Dividends and Share Certificates:

The Shareholders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the Unclaimed Shares, Modaraba Certificate, Dividends, Others Instruments and Undistributed Assets Regulations, 2017, the companies are required to deposit such amounts to the credit of the Federal Government and the shares to the Commission, which are unclaimed/un-collected for a period of three (03) years or more from the date it is due and payable. The notices to this fact have already been given to the relevant shareholders.